



محدث فلسفی

سوال

(134) نمازِ جنازہ کے متعلق سوال

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

پیراں غائب سے محمد رمضان گھرنے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب طلب کیے ہیں :

- (1) میت کا جنازہ پڑھنے تک ایک یادوآدمی قبر کے پاس بیٹھنے ہے تاکہ قبر کو تہانہ پھوڑ جائے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
- (2) جنازہ لے جاتے وقت آواز بلند "کلمہ شہادت" کہا جاتا ہے، کیا اس طرح میت کو ثواب پہنچتا ہے؟
- (3) میت کو قبرستان کی طرف لے جاتے وقت اگر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو جائیں تو ایسا کرنا گناہ ہے؟
- (4) جنازہ پڑھنے کے بعد جب میت کو قبر کے نزدیک لے جانا ہو تو کیا اسے کندھوں پر اٹھایا جاسکتا ہے یا بازوؤں پر اٹھا کر اسے نیچے ہی نیچے لے کر جانا چاہیے؟
- (5) ہمارے ہاں دفن کرنے کے بعد ستر قدم پر جا کر دعا کی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟

اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

- (1) قبر کو اکیلا پھوڑنے والا مسئلہ من گھرست دیناتی مسائل سے ہے، قبر کے پاس بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ جنازہ میں شریک ہوں ان کا وہاں بیٹھنے رہنا شرعاً درست نہیں ہے۔
- (2) جنازہ لے جاتے وقت اونچی آواز میں کلمہ شہادت کہنا اور دوسرا لے لوگوں کا بطور جواب کلمہ شہادت پڑھنا بھی نئی لمجاد ہے، سلف صاحبین سے اس کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ایسا کرنے سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔
- (3) جاتے وقت جنازہ کا رخ جس طرف ہے سراسی طرف ہونا چاہیے، اگر اتفاق سے میت کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً: اگر قبرستان مشرق کی طرف ہے تو میت کا رخ بھی مشرق کی طرف ہوگا، اس صورت میں پاؤں قبلہ رخ ہی ہوں گے، صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانے کی طرف میت کا سر ہونا چاہیے۔



محدث فلوبی

(4) حسب ضرورت جو مناسب ہو کر لیا جائے، ضروری نہیں کہ میت کو قبر کی طرف لے جانے کے لئے اسے کندھوں پر اٹھایا جائے، جنازہ کے بعد اگر قبر نزدیک ہے تو میت کو کندھوں پر اٹھاتے بغیر اسے قبر کے قریب کیا جاسکتا ہے، اگر قبر دور ہے تو اسے کندھوں پر اٹھا کر لے جانا بھی جائز ہے۔

(5) دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہیں جائز ہے لیکن قبر سے ستر قدم دور جا کر دعا کرنا محسن ایک رسم ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس قسم کی تمام رسومات سے پرہیز کرنا چلbiye۔

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 165